



سٹی، 1 مارچ سے برامپٹن ریکرینیشن سنٹرز اور پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں سے ویکسین لگوانے کے ثبوت کی شرائط اور گنجائش کی پابندیوں کو ختم کر رہا ہے

برامپٹن، آن (1 مارچ 2022) – یکم مارچ سے، ویکسین لگوانے کے ثبوت دکھانے کی مزید ضرورت نہیں رہے گی اور برامپٹن کے تفریحی مراکز اور پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں پر عائد گنجائش کی پابندیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ یہ اقدامات حکومت اونٹاریو کے [14 فروری](#) کے اعلان اور پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں۔

برامپٹن کے تفریحی مراکز یا پرفارمنگ آرٹس کے مقامات پر جانے والوں کو اب بھی اندرونی مقامات پر غیر طبی ماسک پہننے اور جسمانی دوری پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہو گی۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سٹی کی سہولت گاہوں میں داخل ہونے سے پہلے کووڈ-19 کی علامات کے حوالے سے اپنا جائزہ خود لیں اور اگر طبیعت ناساز ہو تو گھر میں ہی رہیں۔

### تفریح

ریکرینیشن سنٹر رجسٹر شدہ اور ڈراپ ان پروگراموں کے لیے کھلے ہیں۔ تفریحی مراکز میں جانے کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تاہم یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وزیٹرز وہاں پر جانے سے پہلے اپنی خدمات آن لائن خرید لیں کیونکہ تمام خدمات پہلے آئیے، پہلے پائے کی بنیاد پر دستیاب ہیں۔ دستیاب پروگراموں کے لیے براؤز کریں اور رجسٹر کریں: [www.brampton.ca/registerforprograms](http://www.brampton.ca/registerforprograms) یا 311 پر کال کریں یا شہر کے کسی بھی تفریحی مرکز میں ذاتی طور پر تشریف لے جائیں۔

### پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہیں

1 مارچ 2022 کو پرفارمنگ آرٹس کے مقامات، بشمول 'دی روز'، اپنی پوری گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھلیں گے۔ ٹکٹ خریدیں یا مزید یہاں جانیں: [www.therosebrampton.ca](http://www.therosebrampton.ca)

### ماسک

رہائشیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ سٹی نے برامپٹن کی تمام سہولت گاہوں میں کووڈ-19 کے لازمی فیس ماسک کے اپنے ضمنی قانون میں توسیع کردی ہے۔

مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ اب، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک کو فیس کورنگز کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ، ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق ماسک صرف اسی صورت میں اتارے جا سکتے ہیں جب کوئی شخص کھانے پینے کے لیے مختص شدہ کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہو۔

جسمانی فاصلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ماسک پہننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر سٹی اپنے رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ  
سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)